

"ہر ناکامی میں چھپی ہے کامیابی کی کنجی!"

بچوں کے لئے

# غلطیوں سے سیکھنے کا سفر

ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا فن



**Shaikh Nooruddin Umeri**

M.A., M Phil in Arabic





"ہر ناکامی میں چھپی ہے کامیابی کی کنجی!"

بچوں کے لئے

# غلطیوں سے سیکھنے کا سفر

ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا فن



**Shaikh Nooruddin Umeri**

M.A., M Phil in Arabic

**Author :**

**SHAIKH NOORUDDIN UMERI** (M.A., MPhil in Arabic)  
(+91-9391138391)

**Design By: OS CREATIONS**

(+91 9014880424)  
📞 (+91 8885553853 only Whatsapp)

**Publisher : Tarbiyah Books for Children**  
(Hyderabad, TS.)

**Price: 160/-**

**Published in, December 2024**

**Distributor: Ar Rahman Enterprises**  
(+91-9000011970, +91-9700811695)

All rights reserved under the Copyright Act. No part of this book may be reproduced and stored in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without a prior written permission of the publisher.

## فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	شمار نمبر
1	مقدمہ	1
3	اسکول بس کا مس ہونا: ایک سیکھنے کا موقع	2
5	ٹیچر سے مار کھانے یا ڈانٹنے کا تجربہ: سیکھنے کا ایک موقع	3
7	کھیل میں ہار جانے سے سیکھنے کے طریقے	4
9	لڑائی جھگڑے سے سیکھنے کے طریقے	5
11	دوستی میں مشکلات سے سیکھنے کے طریقے	6
13	والدین کی ناپسندیدگی سے سیکھنے کے طریقے	7
15	ناکامی کے خوف سے سیکھنے کے طریقے	8
17	خود اعتمادی کی کمی سے سیکھنے کے طریقے	9
19	امتحان میں فیل ہونے سے سیکھنے کے طریقے	10
21	علمی ناکامیوں سے سیکھنے کے طریقے	11
23	زندگی کے عمومی چیلنجز سے سیکھنے کے طریقے	12

زندگی ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے، جہاں ہر تجربہ انسان کو ترقی اور کامیابی کی جانب ایک نیا سبق دیتا ہے۔ بچوں کی ابتدائی عمر ان کی شخصیت اور کردار کی تشکیل کا اہم وقت ہوتا ہے، جہاں ان کے تجربات، ناکامیاں، اور کامیابیاں انہیں مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ یہ کتاب بچوں کو زندگی کے مختلف تجربات کے ذریعے سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے اور والدین و معلمین کو ان کی رہنمائی کے طریقے سکھانے کے لیے لکھی گئی ہے۔

بچپن میں جو عادات اور اصول سکھائے جاتے ہیں، وہ بچے کی پوری زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد بچوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز اور ناکامیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ کتاب والدین، اساتذہ، اور سرپرستوں کے لیے ایک رہنما ہے، جو بچوں کی تربیت میں ان کے لیے معاون ثابت ہوگی۔

### کتاب کی خصوصیات

#### بچوں کے تجربات سے سیکھنے کے اصول:

یہ کتاب روزمرہ کے تجربات جیسے اسکول بس کا مس ہونا، کھیل میں ہارنا، اور والدین کی ناپسندیدگی جیسے موضوعات کو بچوں کے لیے ایک سیکھنے کے موقع میں تبدیل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

#### ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے کا ہنر:

بچوں کو یہ سمجھانے کے عملی مشورے دیے گئے ہیں کہ امتحان میں فیل ہونا، علمی ناکامیاں، یا زندگی کے چیلنجز نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ کامیابی کی سیڑھیاں بھی ہیں۔

#### رشتوں کی قدر اور جذباتی تربیت:

کتاب میں دوستی میں مشکلات، لڑائی جھگڑوں، اور والدین کی ناپسندیدگی جیسے موضوعات کو بچوں کے جذباتی شعور کو بہتر بنانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔

#### خود اعتمادی اور مثبت سوچ کی ترغیب:


خود اعتمادی کی کمی، ناکامی کے خوف، اور دیگر نفسیاتی مسائل کو بچوں کی خود اعتمادی بڑھانے اور ان کی مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے سادہ اور موثر طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔

بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔

زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ دینا۔

نا کامیوں کو ایک سبق کے طور پر قبول کرنا سکھانا۔

بچوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی جذباتی تربیت کرنا۔



کتاب کی تیاری کا مقصد

یہ کتاب بچوں کو یہ سمجھانے میں مدد دے گی کہ زندگی میں ہر ناکامی ایک نئے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ہر چیلنج انہیں بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔

ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب والدین، معلمین، اور سرپرستوں کے لیے بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہوگی، اور اس کے ذریعے نچے نہ صرف اپنی زندگی کے چیلنجز کو قبول کریں گے بلکہ ان سے کامیابی اور ترقی کے راستے بھی تلاش کریں گے۔ یہ کتاب بچوں کی خود اعتمادی، تعلقات، اور زندگی کے بارے میں مثبت رویے کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔

والسلام

نور الدین عمری۔ ایم، اے۔ ایم، فل



## اسکول بس کا مس ہونا: ایک سیکھنے کا موقع



اسکول بس کا مس ہونا ایک عام سی صورت حال ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ذریعے بچے زندگی کے اہم اسباق سیکھ سکتے ہیں۔ وقت کی اہمیت، صبر، مسئلہ حل کرنے کی مہارت، ذاتی ذمہ داری، اور دوستی جیسی چیزیں انہیں مضبوط کردار اور بہتر انسان بناتی ہیں۔ یہ تجربات نہ صرف ان کے روزمرہ کی زندگی میں کالامد ہوتے ہیں بلکہ انہیں مستقبل میں آنے والی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں۔ اس مضمون میں، ہم ان چیزوں پر غور کریں گے جو بچے بس چھوٹنے کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں اور یہ سیکھنے کے طریقے کیا ہیں۔

### 1. وقت کی اہمیت



ایک اہم سبق جو بچے اس موقع پر سیکھ سکتے ہیں وہ ہے وقت کی پابندی۔ اگر اسکول کی بس چھوٹ جاتی ہے تو بچے محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ وقت پر پہنچ جاتے تو یہ صورت حال پیش نہیں آتی۔ اس تجربے سے، وہ سیکھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں وقت کا بہتر انتظام کرنا کس قدر ضروری ہے۔ انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔

### 2. صبر اور تحمل



بس چھوٹ جانے کی صورت میں بچے صبر سے بیٹھے رہنے اور انتظار کرنے کا درس حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم جذبہ ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں کالامد ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کسی بھی مشکل کو تحمل سے جھیلنا ضروری ہے۔

### 3. متبادل راستوں کی تلاش



جب بس مس ہو جاتی ہے، تو بچے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے دوسرے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انہیں سکھاتا ہے کہ جب ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرے راستوں کو اختیار کرنا چاہئے۔ وہ اپنے والدین یا دوستوں سے مدد لینے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، جو ایک بہترین سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔

#### 4. مسئلہ حل کرنے کی مہارت



اسکول بس کے چھوٹ جانے پر بچے مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ انہیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرتے وقت مختلف آپشنز کو تلاش کرنا کتنا اہم ہے۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

#### 5. ذاتی ذمہ داری

جب بچے بس چھوٹنے کی وجہ خود کی غفلت کو جانتے ہیں تو انہیں اپنی ذاتی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے کا موقع انہیں اپنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آئندہ ایسی صورت حال سے بچ سکیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

#### 6. دوستی اور مدد



بس چھوٹ جانے کی صورت میں بچے اپنے دوستوں سے مدد لینے کی اہمیت کو بھی سیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنے میں دوستوں کا ساتھ کتنا اہم ہوتا ہے۔ دوستی اور تعاون کی اس روح کو سمجھنا انہیں زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔

#### 7. حفاظتی تدابیر



یہ صورت حال بچوں کو سکھاتی ہے کہ ہمیشہ کچھ اضافی وقت رکھنا چاہئے تاکہ ہنگامی صورت حال کا سامنا کیا جاسکے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی مخصوص وقت پر نہیں پہنچتے تو انہیں اپنی منصوبہ بندی کو بہتر بنانا ہوگا۔

#### 8. سکون اور مثبت رویہ

بس چھوٹ جانے کی صورت میں بچے سکون سے کام لینے اور مثبت رہنے کا درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ مایوس ہونے کی بجائے ہنسی مذاق کرنا اور حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرنا زیادہ بہتر ہے۔

"وقت کی پابندی زندگی میں

کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔"

نصیحت:

## ٹیچر سے مار کھانے یا ڈانٹنے کا تجربہ: سیکھنے کا ایک موقع

تعلیمی سفر میں، بچوں کو مختلف تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک تجربہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچر سے مار کھا سکتے ہیں یا ڈانٹ سکتے ہیں۔ یہ صورت حال بعض اوقات بچوں کے لئے بہت مشکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اس مضمون میں، ہم ان اہم اسباق پر غور کریں گے جو بچے اس تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی سیکھتے ہیں۔ احترام، اپنی غلطیوں کا اعتراف، صبر، مثبت تبدیلی کی کوشش، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، مسئلے کا حل تلاش کرنا، اپنی قوت کا احساس، اور مستقبل میں بہتر رویہ اپنانا، یہ سب سیکھنے کے مواقع ہیں۔ ان تجربات کا فائدہ اٹھا کر بچے ایک مضبوط کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں اور زندگی کے مختلف چیلنجز کا بہتر طریقے سے سامنا کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔

### 1. احترام کا درس



جب بچے اپنے ٹیچر سے مار کھاتے ہیں یا ڈانٹ سن کر گزرتے ہیں، تو وہ یہ سیکھتے ہیں کہ استاد کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کی حیثیت صرف ایک علم کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ ان کی رہنمائی اور تربیت کے لئے بھی اہم ہیں۔ اس تجربے کے ذریعے بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احترام کے بغیر تعلیم کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی۔

### 2. اپنی غلطیوں کا اعتراف



جب بچے ٹیچر کی ڈانٹ یا سزا کا سامنا کرتا ہے، تو اس کے سامنے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا موقع آتا ہے۔ یہ بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ غلطیاں انسانی فطرت کا حصہ ہیں اور ان کا اعتراف کرنا ایک مثبت عمل ہے۔ اس سے وہ اپنے رویے میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔

### 3. صبر اور تحمل

ٹیچر سے مار کھانے یا ڈانٹنے کا تجربہ بچے کو صبر کرنے کا درس دیتا ہے۔ وہ سیکھتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرتے وقت خود کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ سبق انہیں سکھاتا ہے کہ صبر کرنا اہم ہے اور کبھی کبھار سخت حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی خود کو متوازن رکھنا ضروری ہے۔



### 4. مثبت تبدیلی کی کوشش

جب بچے ٹیچر کی ڈانٹ یا سزا کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی عادات یا رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف قدم بڑھانے کا موقع ہے، جس کے ذریعے وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔

5. دوسروں کے جذبات کو سمجھنا



ٹیچر کی طرف سے ماریڈانٹ کھانے کے بعد بچے کو دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سختی کا مقصد صرف ان کی بہتری ہوتی ہے، اور انہیں اس بات کا احترام کرنا چاہئے کہ ٹیچر بھی انسان ہیں اور ان کی توقعات ہوتی ہیں۔

6. مسئلے کا حل تلاش کرنا




جب بچے ٹیچر کی سختی کا سامنا کرتے ہیں، تو انہیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح مشکل حالات میں مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل کا ایک حل ہوتا ہے اور انہیں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

7. اپنی قوت کا احساس

ٹیچر کی ڈانٹ یا سزا کے بعد بچے کو اپنی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سیکھتے ہیں کہ سخت حالات کا سامنا کرنے کی ہمت رکھنی چاہئے اور انہیں اپنی قابلیتوں پر اعتماد کرنا چاہئے۔ اس تجربے کے ذریعے وہ اپنی خود اعتمادی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

8. مستقبل میں بہتر رویہ



آخر میں، یہ تجربہ بچے کو مستقبل میں بہتر رویے کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے رویے کو بہتر بنائیں گے تو انہیں دوبارہ اسی قسم کی صورت حال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

ٹیچر سے مار، یا ڈانٹ کھانے کا تجربہ بچوں کے لئے ایک چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ زندگی کے اہم سبق سیکھتے ہیں۔ احترام، اپنی غلطیوں کا اعتراف، صبر، مثبت تبدیلی کی کوشش، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، مسئلے کا حل تلاش کرنا، اپنی قوت کا احساس، اور مستقبل میں بہتر رویہ اپنانا، یہ سب سیکھنے کے مواقع ہیں۔ ان تجربات کا فائدہ اٹھا کر بچے ایک مضبوط کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں اور زندگی کے مختلف چیلنجز کا بہتر طریقے سے سامنا کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔

نصیحت:

"ٹیچر کی ناراضگی دراصل آپ کی صلاح اور کامیابی کی فکر کا اظہار ہے۔"



## کھیل میں ہار جانے سے سیکھنے کے طریقے



کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ سیکھنے کا ایک بڑا موقع بھی ہے۔ جب بچے کھیل میں ہار جاتے ہیں تو انہیں نہ صرف اس سے مایوسی ہوتی ہے بلکہ ان کے لئے یہ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے ہار سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس تجربے کو کس طرح مثبت بنایا جاسکتا ہے۔

### 1. کھیل کی روح

**کھیل میں ہارنے کے باوجود کھیل کی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بچے یہ جان سکتے ہیں کہ:**

**مسابقت کی خوبصورتی:** کھیل کا اصل مقصد مقابلہ کرنا اور بہتر بنانا ہے۔ ہار جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی بہترین نہیں ہوتا، ہار جیت زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ ایک قدرتی عمل ہے۔



**پیشہ ورانہ روح:** کھیل کے میدان میں ہارنے کے بعد بھی اپنی پیشہ ورانہ روح کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے کیوں کہ یہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ ہارنے کے باوجود انہیں کھیل کا لطف اٹھانا چاہئے اور اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینا چاہئے۔

### 2. ٹیم ورک اور تعاون کی اہمیت

**کھیل میں ہارنے کا تجربہ ٹیم ورک کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے:**

**تعاون کی ضرورت:** بچے جب ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھنا چاہئے۔ یہ بات ان کو سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لئے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔



**اختلافات کا حل:** اگر ایک ٹیم ہار جاتی ہے تو ان کے درمیان مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ سیکھنا چاہئے کہ اختلافات کو کیسے حل کیا جائے اور کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔

### 3. ہار کو قبول کرنا اور مزید محنت کرنا

**ہار کو قبول کرنا اور اس سے آگے بڑھنے کی صلاحیت ایک اہم سبق ہے:**

**ناکامی کا سامنا:** بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ ہر بار ایک موقع ہے مزید صلاحیت کو بڑھانے اور مشق کرنے کے لیے۔ ہار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکام ہیں، بلکہ یہ ان کی بہتری کے لئے ایک موقع اور راستہ ہے۔



**مزید محنت کرنا:** ہار کے بعد مزید محنت کرنا ضروری ہے۔ بچوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ انہیں اپنی کمزوریوں پر کام کرنا ہے اور اپنی مہارتوں کو بہتر بنانا ہے۔



#### 4. کھیل میں ہار جانے سے سیکھنے کے طریقے

جب بچے کھیل میں ہار جاتے ہیں تو انہیں چند خاص طریقوں کو اپنانا چاہئے:

**غلطیوں کا جائزہ:** اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی مہارتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔



**مقابلے کا تجزیہ:** ہارنے کے بعد اپنے مقابلے کا تجزیہ کریں۔ جانیں کہ کیا چیزیں بہتر کی جاسکتی ہیں اور آئندہ کے لئے کیا منصوبہ بنایا جاسکتا ہے۔

**مقابلے سے لطف اٹھائیں:** اگرچہ ہارنے پر مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کو چاہئے کہ وہ کھیل سے لطف اٹھائیں۔ یہ ان کے لئے ایک تفریحی تجربہ ہونا چاہئے۔

کھیل میں ہار جانے کا تجربہ بچوں کے لئے سیکھنے کا ایک قیمتی موقع ہوتا ہے۔ کھیل کی روح، ٹیم ورک، اور ہار کو قبول کرنے کی اہمیت کو سمجھ کر بچے اپنی شخصیت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ تجربات انہیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں محنت کرنے کی ترغیب دیں گے اور انکو اس پر آمادہ بھی کریں گے۔

#### نصیحت:

"ہار ہمیں بہتر بننے اور دوبارہ  
کوشش کرنے کا موقع دیتی ہے۔"



## لڑائی جھگڑے سے سیکھنے کے طریقے



لڑائی جھگڑے عام طور پر ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے سیکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک قیمتی تجربہ بن سکتے ہیں۔ بچوں کو لڑائی جھگڑوں کے ذریعے سیکھنے کے کئی طریقے ہیں جو انہیں زندگی میں امن، محبت اور تعلقات کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے لڑائی جھگڑے سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔

### 1 لڑائی جھگڑوں سے بچوں کو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ:



**امن کی ضرورت:** بچے سمجھ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ امن سے بات چیت کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی سوچ میں وسعت آتی ہے اور وہ امن کو ترجیح دیتے ہیں۔

**محبت کا فروغ:** لڑائی جھگڑے کے بعد بچوں کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام رکھنا کتنا اہم ہے۔ یہ احساس انہیں دوسروں کی قدر کرنے کا سبق دیتا ہے۔

### 2 لڑائی جھگڑوں کے بعد بچوں کو یہ سیکھنا چاہئے کہ:

**بات چیت کی طاقت:** بچے یہ سیکھیں کہ لڑائی جھگڑوں کے بجائے بات چیت کے ذریعے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا زیادہ موثر ہوتا ہے۔ یہ انہیں سکھاتا ہے کہ مسئلے کا حل بات چیت سے نکلتا ہے۔

**ایک دوسرے کی سنتا:** جب بچے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کی محسوسات کا احترام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے اور وہ کیسے مل کر حل کر سکتے ہیں۔



### 3 لڑائی جھگڑوں کے تجربات بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ:

**معافی مانگنے کی اہمیت:** اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کو نقصان پہنچایا ہے تو اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل انہیں سکھاتا ہے کہ غلطی کرنا انسانیت ہے، اور معافی مانگنا ایک طاقتور عمل ہے۔

**معاف کرنے کا عمل:** جب بچے کسی دوسرے بچے کی معافی قبول کرتے ہیں تو وہ محبت اور دوستی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ عمل انہیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنے سے دلوں میں محبت اور اخوت بڑھتی ہے۔



4 جب بچے لڑائی جھگڑوں میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں چند خاص طریقوں کو اپنانا چاہئے:

**غلطیوں کا جائزہ:** بچے اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور سمجھیں کہ ان کے عمل نے دوسرے کو کس طرح متاثر کیا۔ اس کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کی بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں۔



**مسئلے کی جڑ تلاش کرنا:** لڑائی جھگڑوں کا اصل سبب جاننے کی کوشش کریں۔ یہ احساس انہیں سکھاتا ہے کہ مسائل کی جڑیں کیا ہوتی ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جاسکتا ہے۔

**مقصد کا تعین:** بچوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑائی جھگڑوں کا مقصد کامیابی نہیں ہے بلکہ سمجھوتہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔

لڑائی جھگڑے بچوں کے لئے سیکھنے کا ایک موقع ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ ان تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ امن، محبت، بات چیت، اور معافی کی اہمیت کو سمجھ کر بچے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات بنا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ایک بہتر انسان بننے کی طرف بڑھتے ہیں۔

## نصیحت

"اختلافات کو سمجھداری سے

حل کرنا حقیقی بہادری ہے۔"



## دوستی میں مشکلات سے سیکھنے کے طریقے



دوستی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بچے مختلف طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں، جو ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ بچے دوستی میں مشکلات سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔

### 1. اعتماد اور وفاداری

دوستی کی بنیاد اعتماد اور وفاداری پر ہوتی ہے، اور مشکلات کے دوران بچے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ:

**اعتماد کا مطلب:** بچے سمجھ سکتے ہیں کہ دوستوں پر اعتماد کرنا اور انہیں اپنی باتیں بتانا کتنا ضروری ہے۔ جب مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ اعتماد مزید مضبوط ہوتا ہے۔



**وفاداری کی اہمیت:** جب دوستی میں مشکلات آتی ہیں، تو بچے یہ سیکھتے ہیں کہ وفادار دوست ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ وفاداری کا یہ جذبہ دوستی کو مزید مضبوط بناتا ہے اور ایک دوست کے ساتھ مل کر مشکلات کا سامنا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

### 2. دوسروں کے جذبات کو سمجھنا

**جذبات کا احترام:** بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے جذبات کی قدر کرنا ضروری ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی دوست کسی وجہ سے ناراض یا افسردہ ہے، تو اس کے جذبات کو سمجھنا اور اس کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔

**بہردی:** بچے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دوسروں کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انہیں اپنے جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اپنے دوستوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، تو وہ ایک دوست کے قریب آتے ہیں اور دوستی کی بنیاد مزید مضبوط ہوتی ہے۔



### 3. اختلافات کو حل کرنے کے طریقے

**بات چیت کی اہمیت:** بچے یہ سیکھتے ہیں کہ اختلافات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ بات چیت ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہو تو اپنی بات کو سمجھانے اور دوسرے کی بات سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

**سمجھوتہ کرنا:** بچوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ کبھی کبھی انہیں اپنے نقطہ نظر سے ہٹ کر سمجھوتہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ دوستی کے لئے کسی بھی صورت حال میں یکدل رہنا ضروری ہے۔

**مسئلے کی جڑ کو سمجھنا:** بچوں کو اختلافات کے حل کے لئے یہ بھی سیکھنا چاہئے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے۔ اس سے وہ بہتر طریقے سے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں اور مستقبل میں اسی طرح کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔





**پختگی اور صبر:** مشکلات کا سامنا کرنے سے بچوں میں پختگی اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ انہیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اس لئے ہار نہیں مانی چاہئے۔


**مشترکہ تجربات:** دوستی میں مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بچے مشترکہ تجربات کے ذریعے آپس میں اور زیادہ قریب آجاتے ہیں۔ یہ تجربات ان کی دوستی کو مضبوط بناتے ہیں اور ان کے درمیان یادگار لمحات تخلیق کرتے ہیں۔

دوستی میں مشکلات ایک قدرتی حصہ ہیں، اور ان سے سیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ اعتماد اور وفاداری کی اہمیت، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، اور اختلافات کو حل کرنے کے طریقے بچوں کی شخصیت کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب بچے ان تجربات سے سیکھتے ہیں، تو وہ نہ صرف بہتر دوست بن جاتے ہیں بلکہ زندگی کے دوسرے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح، دوستی کی مشکلات انہیں مضبوط بناتی ہیں اور ایک بہتر انسان کی شکل میں پروان چڑھاتی ہیں۔

### نصیحت

"مشکل وقت میں دوستی مضبوط ہوتی ہے،  
صبر اور محبت سے اسے بچائیں۔"

## والدین کی ناپسندیدگی سے سیکھنے کے طریقے



زندگی میں کبھی کبھار والدین کی ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بچوں کے لیے ایک مشکل تجربہ ہو سکتا ہے۔ تاہم، یہ ناپسندیدگی بعض اوقات سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ بچے والدین کی ناپسندیدگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور ان کا رویہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔

### 1. والدین کی توقعات کو سمجھنا

والدین کی ناپسندیدگی کا پہلا سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے والدین کی توقعات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ بچے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ:



**توقعات کی وضاحت:** والدین سے بات چیت کر کے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو بچوں کو اپنی غلطیوں کی وجوہات جاننے میں مدد دیتی ہے اور ان کی بہتری کے لیے ایک سمت فراہم کرتی ہے۔  
**ذاتی ترقی کا موقع:** والدین کی توقعات کو سمجھنے سے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کامیابی کے لئے ان کے والدین کے نظریات کتنے اہم ہیں۔ یہ انہیں اپنی کمزوریوں پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

### 2. خود کو بہتر بنانے کی کوشش

والدین کی ناپسندیدگی کے نتیجے میں بچے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ:



**تحقید کا مثبت استعمال:** والدین کی ناپسندیدگی کو تحقید کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر دیکھنا۔ بچے اس تحقید کو اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔  
**ہنر کی ترقی:** بچے اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر ان پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر والدین ان کی پڑھائی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں تو بچے اپنی پڑھائی میں بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔  
**پروفیشنل مدد:** کبھی کبھی والدین کی ناپسندیدگی کے بعد بچے پر پروفیشنل مدد بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ ٹیوٹرز یا مشیر جو انہیں بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔

والدین کی ناپسندیدگی کے دوران کھلے دل سے بات چیت کرنا انتہائی اہم ہے:

**احساسات کا اظہار:** بچے اپنے احساسات کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ والدین ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو والدین کو بچوں کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔

**مثبت بات چیت:** کھلے دل سے بات چیت کرنے سے بچے اپنے والدین کے ساتھ ایک مثبت رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان اعتماد پیدا کرتا ہے۔

**مشکل وقت میں حمایت:** بچے یہ سیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کھلے دل سے بات چیت کرنے سے وہ اپنے والدین کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تعلقات کو مزید مستحکم کرتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

والدین کی ناپسندیدگی بچوں کے لئے ایک چیلنج ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ کئی اہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ والدین کی توقعات کو سمجھنا، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، اور کھلے دل سے بات چیت کرنا انہیں نہ صرف ایک بہتر انسان بناتا ہے بلکہ ان کے والدین کے ساتھ تعلقات کو بھی مزید مستحکم کرتا ہے۔ ان تجربات سے بچے زندگی کے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہتر تیار ہوتے ہیں، اور یہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

## نصیحت

"والدین کی ناراضگی ان کی

محبت اور فکر کا دوسرا رخ ہے۔"

## ناکامی کے خوف سے سیکھنے کے طریقے



ناکامی کا خوف انسان کی زندگی میں ایک عام احساس ہے، خاص طور پر بچوں میں، جو اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تاہم، ناکامی کے خوف سے سیکھنے کے کئی طریقے ہیں جو بچوں کی شخصیت کو مضبوط اور کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ بچے ناکامی کے خوف سے کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اسے مثبت انداز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔

### 1. خوف کا سامنا کرنا

ناکامی کے خوف سے نمٹنے کا پہلا قدم اس کا سامنا کرنا ہے:

مقابلہ کرنا بچے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ناکامی کا سامنا کرنا ایک معمول کا حصہ ہے۔ مثلاً، اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ احساس دلانا چاہئے کہ یہ ایک موقع ہے سیکھنے کا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ناکامی کا نشان۔

چھوٹے قدم اٹھانا: بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی ناکامیوں سے سبق سیکھیں اور بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنے کی تیاری کریں۔ اس طرح وہ خوف کو شکست دینے کی عادت بنا سکتے ہیں۔

مثبت سوچ: بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ ناکامی کے خوف کو مثبت سوچ کے ذریعے شکست دی جاسکتی ہے۔ یہ انہیں خود اعتمادی فراہم کرتا ہے اور وہ زیادہ ہمت سے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔



### 2. تجربات کی قدر کرنا

ناکامی کے خوف کو کم کرنے کا دوسرا طریقہ تجربات کی قدر کرنا ہے:

سبق سیکھنے کا موقع: بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ہر ناکامی ایک سبق سیکھنے کا موقع ہے۔ جیسے کہ کھیلوں میں ہارنے کے بعد وہ اپنی غلطیوں پر غور کریں اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش کریں۔

تجربات کا جمع کرنا: بچے اپنی ناکامیوں کو جمع کر کے ان سے تجربات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تجربات انہیں بتاتے ہیں کہ ناکامی کے باوجود آگے بڑھنا ممکن ہے۔



مثالیں پیش کرنا: بچوں کو ایسی مثالیں پیش کی جائیں جہاں مشہور افراد نے ناکامی کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے اسے اپنی کامیابی کی بنیاد بنایا۔ یہ انہیں حوصلہ دے گا کہ ناکامی کا سامنا کرنا ایک معمول کا عمل ہے۔



ناکامی کے خوف کو کم کرنے کا ایک اہم طریقہ مستقل مزاجی ہے:

پختہ عزم: بچے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر وہ ناکامی کے بعد ہار مان لیتے ہیں تو وہ اپنی کامیابی کے مواقع کھود دیتے ہیں۔



مستقل مزاجی برقرار رکھنا: بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے۔ مستقل مزاجی انہیں ہر حال میں کوشش کرنے کا سبق دیتی ہے۔

جذبہ پیدا کرنا: بچوں میں کامیابی کے لیے جذبہ پیدا کرنا اہم ہے۔ انہیں یہ سکھانا چاہئے کہ مستقل مزاجی کے ذریعے وہ اپنی کوششوں کا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے انہیں ناکامی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔

ناکامی کا خوف بچوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس سے سیکھنے کے طریقے انہیں مضبوط اور کامیاب بناتے ہیں۔ خوف کا سامنا کرنا، تجربات کی قدر کرنا، اور کامیابی کے لیے مستقل مزاجی اپنانا ان کے کردار کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان تجربات سے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ناکامی ایک عارضی حالت ہے، اور ہر ناکامی سے کچھ نیا سیکھنے کا موقع ہوتا ہے، جو ان کے مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔



نصیحت: "ناکامی سے مت ڈریں، یہ کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے۔"



## خود اعتمادی کی کمی سے سیکھنے کے طریقے



خود اعتمادی کی کمی ایک عام مسئلہ ہے جو بہت سے بچوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، جیسے کہ تعلیم، کھیل، اور سماجی روابط۔ تاہم، خود اعتمادی کی کمی سے سیکھنے کے طریقے موجود ہیں، جو بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم تین اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے: 1. اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا، 2. خود کو چیلنج کرنا، 3. اور مثبت گفتگو کرنا۔

### 1. اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا

**خود کی قدر:** بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ وہ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی قدر کریں۔ انہیں اپنے کاموں میں کامیاب ہونے پر خود کو تعریف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔



**پیش رفت کا ریکارڈ رکھنا:** بچے اپنی کامیابیوں کی فہرست بنا سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ان کے لئے ایک یاد دہانی ہوگی کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، جو ان کی خود اعتمادی کو بڑھائے گی۔

**تجربات سے سیکھنا:** بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ناکامیاں بھی کامیابی کی طرف لے جانے والے تجربات ہیں۔ جب وہ اپنی ناکامیوں کو مثبت انداز میں لیں گے تو ان کی خود اعتمادی بڑھے گی۔

### 2. خود کو چیلنج کرنا

**نئے تجربات:** بچے نئے تجربات کا سامنا کر کے اپنی صلاحیتوں کو آزما سکتے ہیں۔ مثلاً، اگر وہ کسی مضمون میں کمزور ہیں تو انہیں اس میں مزید محنت کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔



**باہمی مقابلے:** بچوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ یہ انہیں اپنی قابلیت کا اندازہ کرنے میں مدد دے گا اور خود اعتمادی کو بڑھائے گا۔

**قدم بہ قدم ترقی:** چیلنجز کو چھوٹے قدموں میں تقسیم کرنا بھی اہم ہے۔ بچے ابتدا میں چھوٹے چیلنجز لے کر آہستہ آہستہ بڑے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، جو انہیں خود اعتمادی فراہم کرے گا۔

**مثبت الفاظ کا استعمال:** بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں مثبت الفاظ کا استعمال کریں۔ جیسے کہ "میں یہ کر سکتا ہوں" یا "میں اچھا کر رہا ہوں"۔ یہ ان کے ذہن میں خود اعتمادی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

**منفی خیالات کا مقابلہ:** بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ وہ منفی خیالات کے مقابلے میں مثبت خود گفتگو کریں۔ جب بھی وہ خود کو کمزور محسوس کریں تو انہیں یاد دلانا چاہیے کہ وہ پہلے بھی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں۔

**دوسروں کی مدد:** بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ مثبت خود گفتگو کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ جب وہ خود کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی اور اعتماد دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔



خود اعتمادی کی کمی سے سیکھنے کے طریقے بچوں کے لئے کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا، خود کو چیلنج کرنا، اور مثبت خود گفتگو اپنانا ان کی شخصیت کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان تجربات سے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ خود اعتمادی صرف ایک احساس ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عمل بھی ہے جسے مسلسل کوشش اور مثبت سوچ کے ذریعے بڑھایا جاسکتا ہے۔ خود اعتمادی کی کمی کو پیچھے چھوڑ کر بچے اپنے خوابوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

نصیحت: "اپنے آپ پر یقین رکھیں،  
آپ اللہ کی خاص تخلیق ہیں۔"



## امتحان میں فیل ہونے سے سیکھنے کے طریقے



امتحان میں فیل ہونا ایک تلخ حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اہم سبق پوشیدہ ہے۔ یہ سبق ہمیں محنت، منصوبہ بندی، تیاری، ناکامی کا سامنا، اور عزم کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے ان چیلنجز سے کیسے سیکھ سکتے ہیں۔

### 1. محنت کی اہمیت



محنت کا مطلب ہے اپنی کامیابی کے لئے مستقل کوشش کرنا۔ جب بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ:

**کوشش ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے:** محنت کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچے نے محنت کی، تو وہ اپنے علم میں ضرور اضافہ کرے گا۔

**محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے:** محنت کرنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے۔ بچے جب اپنی محنت کا پھل دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ملتی ہے۔

### 2. منصوبہ بندی اور تیاری



منصوبہ بندی اور تیاری کسی بھی امتحان کے لئے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ بچے مندرجہ ذیل نکات کو یاد رکھ سکتے ہیں:

**مطالعہ کا ایک منصوبہ بنائیں:** ایک منظم طریقے سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بچوں کو چاہئے کہ وہ اپنے مواد کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے کے لئے مخصوص وقت مقرر کریں۔

**وقت کی قدر کریں:** بچے اگر وقت کی اہمیت کو سمجھیں تو وہ بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ روزانہ کا ایک وقت طے کریں جس میں وہ پڑھیں اور مطالعہ کریں۔



ناکامی کو ایک موقع کے طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ بچے جب ناکام ہوتے ہیں تو انہیں یہ سیکھنا چاہئے:

**ناکامی کے بعد واپس اٹھنا:** ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ کوششیں بند کر دیں۔ بچے اگر ناکامی کے بعد ہار مان لیں تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ انہیں دوبارہ کوشش کرنی ہوگی۔

**عزم اور پختہ ارادہ:** ناکامی کا سامنا کرتے وقت عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے اگر اپنے مقاصد کے لئے پختہ ارادہ کریں تو وہ کسی بھی ناکامی کا سامنا کر سکتے ہیں۔

14. امتحان میں فیل ہونے سے سیکھنے کے طریقے

جب بچے امتحان میں فیل ہوتے ہیں تو انہیں کچھ خاص نکات کو یاد رکھنا چاہئے:

**غلطیوں کا تجزیہ کریں:** اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور جانیں کہ کہاں کمی رہ گئی۔ اس تجزیے کے ذریعے وہ اپنی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں۔



**استاد سے مدد لیں:** اپنے استاد سے مدد مانگیں۔ وہ آپ کی تیاری کے حوالے سے آپ کو بہتر مشورے دے سکتے ہیں۔

دوستانہ مدد: دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ گروپ اسٹڈی سے آپ کو نئے خیالات ملیں گے اور آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا۔

امتحان میں فیل ہونا ایک عام بات ہے، لیکن اس سے سیکھنے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ محنت، منصوبہ بندی، تیاری، ناکامی کا سامنا، اور عزم کی اہمیت کو سمجھ کر بچے اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تجربات ان کی شخصیت کو مضبوط بنائیں گے اور انہیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے تیار کریں گے۔

نصیحت: "غلطیوں کو سمجھ کر محنت کریں،  
اگلی بار آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔"



## علمی ناکامیوں سے سیکھنے کے طریقے



علمی ناکامیاں اکثر بچوں کے لئے مایوسی کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن اگر ان تجربات کو سیکھنے کے مواقع کے طور پر لیا جائے تو یہ ان کی ترقی کا ایک اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم علمی ناکامیوں سے سیکھنے کے تین اہم طریقے پر توجہ دیں گے: مستقل سیکھنے کا عزم، مدد طلب کرنا اور دوسروں سے سیکھنا، اور تجربات کی روشنی میں بہتری۔

### 1. مستقل سیکھنے کا عزم

**منصوبہ بندی:** بچے اپنی تعلیمی زندگی میں پیش آنے والی ناکامیوں کے بعد انہیں نئے طریقوں سے سیکھنے کا عزم کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنی ناکامیوں کا تجزیہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔



**صبر:** بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ کبھی کبھی ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہیں، بلکہ یہ ان کے لئے مزید محنت کرنے کا موقع ہے۔

**مقاصد کا تعین:** بچے اپنی تعلیمی مقاصد کو واضح کریں، جیسے کہ اگلی بار امتحان میں بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ ناکامی کے بعد بہتر کارکردگی کی کوشش کریں۔

### 2. مدد طلب کرنا اور دوسروں سے سیکھنا

**اساتذہ سے رہنمائی:** بچے اپنی ناکامیوں کے بعد اپنے اساتذہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اساتذہ انہیں ان کی کمزوریوں پر توجہ دلائیں گے اور مزید رہنمائی فراہم کریں گے۔



**دوستوں کی مدد:** بچے اپنے دوستوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست نے کسی مضمون میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو وہ اس سے اپنی سیکھنے کی تکنیکیں جان سکتے ہیں۔



**خود کا تجربہ:** بچے اپنی ناکامیوں کا تجربہ کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ کونسی چیزیں ان کے لئے ناکامی کی وجہ بنی ہیں۔ یہ تجربہ انہیں آئندہ کے لئے بہتر منصوبہ بنانے میں مدد دے گا۔

**مسائل کا حل تلاش کرنا:** ناکامیوں کے بعد، بچوں کو مسائل کا حل تلاش کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مثلاً، اگر وہ امتحان میں کم نمبر حاصل کرتے ہیں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس موضوع پر انہیں مزید محنت کرنی چاہیے۔

**مثبت تبدیلیاں:** تجربات کے ذریعے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنی کمزوریوں پر توجہ دے کر انہیں مضبوطیوں میں تبدیل کریں۔ یہ عمل ان کی خود اعتمادی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور انہیں کامیاب بنانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔

علمی ناکامیاں بچوں کے لئے سیکھنے کے اہم مواقع فراہم کرتی ہیں۔ مستقل سیکھنے کا عزم، مدد طلب کرنا، اور تجربات کی روشنی میں بہتری کے ذریعے بچے اپنی علمی ناکامیوں کو ایک مثبت تجربے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں نہ صرف کامیابی کی طرف لے جائے گا بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں بھی مددگار ثابت ہو گا۔ ناکامیاں ان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن ان سے سیکھنا اور آگے بڑھنا انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرے گا۔



نصیحت: "ہر ناکامی ہمیں سیکھنے اور بہتر بننے کا موقع دیتی ہے۔"



## زندگی کے عمومی چیلنجز سے سیکھنے کے طریقے



زندگی میں چیلنجز اور مسائل ہر انسان کا مقدر ہیں۔ یہ چیلنجز ہمیں مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے کے نئے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم زندگی کے عمومی چیلنجز سے سیکھنے کے تین اہم طریقے پر بات کریں گے: مسائل کا حل تلاش کرنا، صبر اور حوصلے کی اہمیت، اور ناکامیوں کو کامیابی کی طرف مڑنا۔

### 1. مسائل کا حل تلاش کرنا

زندگی میں پیش آنے والے مسائل سے سیکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں حل تلاش کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی:

**تجزیہ کرنا:** جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، اس کا تجزیہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں۔



**تنقیدی سوچ:** تنقیدی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ممکنات پر غور کریں۔ یہ آپ کو مختلف زاویوں سے مسئلے کو دیکھنے میں مدد دے گا۔

**عملی منصوبہ:** مسئلے کے حل کے لئے ایک عملی منصوبہ بنائیں۔ اس منصوبے میں واضح مراحل ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔

### 2. صبر اور حوصلے کی اہمیت

**صبر:** صبر کا مطلب ہے کہ مشکلات کے وقت میں ہار نہ ماننا۔ صبر کرنے سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت ملتی ہے اور ہم اپنی قوت ارادی کو بڑھا سکتے ہیں۔



**حوصلہ افزائی:** خود کو حوصلہ دینا اور دوسروں کی مدد سے حوصلہ بڑھانا ضروری ہے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے کے لئے متحرک کر سکتے ہیں۔

**مثبت سوچ:** مثبت سوچ رکھیں۔ جب آپ مثبت سوچتے ہیں تو آپ کو چیلنجز کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ مشکلات کے دوران خود پر یقین رکھیں اور خود کو یاد دلائیں کہ ہر مسئلہ کا حل ہوتا ہے۔

### 3. ناکامیوں کو کامیابی کی طرف موڑنا

**ناکامی کو قبول کرنا:** ناکامی کو ایک تجربے کے طور پر قبول کریں۔ یہ سمجھیں کہ ناکامی کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ مزید سیکھ سکیں اور بہتر ہو سکیں۔



**سبق سیکھنا:** ناکامیوں سے سبق سیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں غلط ہوئے اور مستقبل میں کیا بہتر کیا جاسکتا ہے۔ یہ تجربہ آپ کو مضبوط تر بناتا ہے۔

**نئی کوششیں:** ناکامی کے بعد نئی کوششوں کا آغاز کریں۔ اپنے تجربات سے سیکھ کر آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے نئے طریقے تلاش کر سکتے ہیں۔

زندگی کے عمومی چیلنجز ہمیں سیکھنے کے اہم مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مسائل کا حل تلاش کرنا، صبر اور حوصلے کی اہمیت کو سمجھنا، اور ناکامیوں کو کامیابی کی طرف موڑنے کی مہارتیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کامیاب بناتی ہیں۔ یہ طریقے ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر ترقی کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ ہمیں ایک مضبوط اور مثبت معاشرتی فرد بھی بناتے ہیں۔ چیلنجز کا سامنا کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن ان سے سیکھنا اور آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔

## نصیحت

"چیلنجز آپ کو مضبوط اور کامیاب انسان بناتے ہیں، ان سے گھبرائیں نہیں۔"



# Introduction of **SHAIKH NOORUDDIN UMERI**

Passionate Islamic Scholar, Children's Author, Curriculum Creator, Mentor, Public Speaker, Trainer, and Counselor



*Assalamualikum wa Rahmatullahi wa Barkatuhu*

I am Noor Uddin Umeri, an accomplished professional with a unique blend of expertise in Islamic scholarship, children's literature, curriculum development, mentoring, public speaking, and counseling. I hold a Master's degree in Arabic, as well as MA in Urdu, and I am proud to have authored 70 enriching books for children.

## **AUTHERSHIP & EDUCATION:**



My journey as a children's author has been both rewarding and fulfilling. Through my 70 published books, I aim to instill values, promote curiosity, and nurture a love for learning among young minds. Additionally, my academic background includes an MA and MPhil in Arabic, providing a solid foundation for my work as a curriculum creator.

## **CURRICULUM INNOVATION:**



As the architect of an Activity-Based Tarbiyah Syllabus for grades 1st to 9th, I have contributed to reshaping educational approaches. This curriculum not only imparts knowledge but also fosters holistic development, nurturing the intellectual, emotional, and spiritual growth of students.

## **WORKSHOPS & TRAINING:**



I am actively engaged in conducting workshops for children, covering a diverse range of topics. Through interactive sessions, I aim to inspire young minds, encouraging creativity, critical thinking, and a strong sense of moral values.

## MENTORING & COUNSELLING:



Having worn the hats of a mentor and counsellor, I am dedicated to guiding individuals towards personal and academic success. My approach is rooted in empathy, understanding, and a commitment to nurturing the potential within each person I work with.

## PUBLIC SPEAKING:



A seasoned public speaker, I have had the privilege of addressing audiences on various platforms. Whether it's discussing Islamic principles, sharing insights on education, or motivating young minds, I bring passion, knowledge, and charisma to every speaking engagement.

Let's connect! I am open to collaborate, sharing insights, and contributing to initiatives that align with my values and expertise.


















***Shaik Nooruddin Umeri***

MA.MPhil in Arabic

091-9391138391







**Shaikh Nooruddin Umeri**  
M.A., MPhil in Arabic

MRP  
₹ 160